

Tarjuma Tul Quran Majeed - ICS Part 2 Tarjimatul Quran Chapter 6 Short Questions Test

Q1. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کو کب نازل فرمایا.

Ans 1: غزوہ بدر کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے پر سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کا نازل فرمایا۔ اس سورت میں حکم دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین کے سپرد کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے مجاہدین میں مال غنیمت کو تقسیم فرمادیا۔

Q2. الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ کسادھا۔ اثاقلتم۔ یستبدل۔ لاتحزن۔ جنود۔ السفلی.

Ans 1: کسادھا۔ اس کا خسارہ اٹاقلتم۔ تو بوجھل بوجھل ہو۔ یستبدل۔ وہ بدل کر لے آئے گا۔ لاتحزن۔ غم نہ کرو جنود۔ لشکروں۔ السفلی۔ پست

Q3. لفظ کے معنی لکھیں۔ یصدون۔ جار۔ الفتنین۔ علی عقبیہ۔ الانفال۔ زات بینکم۔ قلوبہم۔ لقیتم۔ لاتنازعوا.

Ans 1: یصدون۔ وہ روکتے ہیں۔ جار۔ جماعتی۔ الفتنین۔ دونوں جماعتیں۔ علی عقبیہ۔ اتنے قدموں۔ الانفال۔ مال غنیمت۔ زات بینکم۔ آپس کے تعلقات۔ قلوبہم۔ ان کے دل لقیتم۔ تمہارا مقابلہ بوجائے۔ لاتنازعوا۔ آپس میں نہ جھگڑو

Q4. انفال یعنی مال غنیمت سے کیا مراد ہے.

Ans 1: انفال نفل کی جمع ہے نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مقصود سے زائد ہوتا تھا۔ جہاد سے مقصود تو آخرت کار۔ اجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ مال کا ملنا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہے

Q5. الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ ینہون۔ مسکن۔ اتبعوہم۔ اعد۔ عزیز علیہ۔ حریض۔ حسبی اللہ.

Ans 1: ینہون۔ وہ روکتے ہیں۔ مسکن۔ مکان۔ اتبعوہم۔ ان کی پیروی کی اعد۔ اس نے تیار کیے ہیں۔ عزیز علیہ۔ ان پر بہت گراں گزرتا ہے۔ حریض۔ خواہش مند ہیں۔ حسبی اللہ۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے

Q6. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے.

Ans 1: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے، قطع رحمی کرتے زمین پر فساد مچاتے ہیں

Q7. اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کرنے کا حکم کس قوم کو دیا.

Ans 1: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا ہے

Q8. سورۃ الانفال کے آغاز میں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے.

Ans 1: یہ سورت 2ھ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک سورت کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ ایک ہی تقریر ہے جو بیک وقت نازل فرمائی گئی ہوگی مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات جنگ بدر ہی سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق

بعد میں اتری ہوں اور پھر ان کو سلسلہ تقریر میں مناسب مقامات پر درج کر کے ایک مسلسل تقریر بنادیا گیا ہو۔ بہر حال کلام میں کہیں کوئی ایسا جوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ یہ الگ الگ دو تین خطبوں کا مجموعہ ہے۔

Q9. غزوہ بدر کب اور کہاں پیش آیا؟

Ans 1: سورۃ الانفال دو ہجری لگ بھگ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اکثر مضامین غزوہ بدر، اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو زلت آمیز شکست سے دو چار کیا۔

Q10. سورۃ الانفال کے مضامین کے دو نکات تحریر کریں۔

Ans 1: 1- غزوہ بدر میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 2- سورت کے آغاز میں مسلمانوں کو تقویٰ، اطاعت حق، ذکر الہی، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔